

138147- قسم اٹھانی کہ اگر چیٹ روم میں داخل ہوا تو بیوی کو طلاق لیکن پھر چیٹ روم میں داخل ہو گیا

سوال

میں جوان ہوں اور شادی سے قبل انٹرنیٹ پر چیٹ روم میں لڑکیوں سے گپ شپ لگایا کرتا تھا، جب شادی ہو گئی تو میں نے قسم اٹھانی کہ اب چیٹ روم میں عمدا اور قصدا نہیں جاؤنگا الایہ کہ بھول جاؤں یا غلطی ہو جائے۔

اس قسم کے بعد میں ڈرتا تھا حتیٰ کہ چیٹ روم کو دیکھنے سے بھی خوف آتا، لیکن میں قسم کے الفاظ بھول چکا ہوں کہ آیا قسم صرف چیٹ روم میں داخل ہونے پر تھی یا کہ چیٹ کرنے پر، کچھ ایام قبل میں انٹرنیٹ پر تھا مجھ سے قبل ایک نوجوان وہاں بیٹھا ہوا تھا جو چیٹ پر لڑکی سے بات چیت کر رہا تھا اور اس نے جاتے وقت اپنی ای میل کھلی ہی رہنے دی تو مجھے خیال آیا کہ میں اس لڑکی کی تصویر دیکھوں "استغفر اللہ" لیکن میرے ذہن میں یہ نہ تھا کہ میں اس کے ساتھ چیٹ کروں لہذا میں نے چیٹ روم کھولا جسے نوجوان نے چھوڑا تھا اور اسے میں نے دیکھا۔

اس دن سے آج تک میں عذاب میں مبتلا ہوں کہ آیا طلاق واقع ہو گئی ہے یا نہیں؟

بعض اوقات میں دل میں کہتا ہوں تم تو چیٹ روم میں انٹر ہونے سے ہی خوفزدہ ہو، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قسم چیٹ روم میں انٹر ہونے پر تھی، پھر بعد میں دل میں کہتا ہوں صرف داخل ہونے کا خوف ہی اس بات کی دلیل نہیں کہ قسم چیٹ روم میں داخل ہونے پر تھی۔

اور بعض اوقات دل میں یہ کہتا ہوں کہ میں بیوی سے رجوع کر لوں گا اور اپنے دل میں اسے ایک طلاق شمار کرتا ہوں پھر پلٹ کر کہتا ہوں میں اسے کیسے ایک طلاق شمار کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے جب قسم کے الفاظ ہی بالضبط یاد نہیں تو یہ طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟

پسندیدہ جواب

اول:

اللہ کے بندے آپ نے اپنے ساتھ برا کیا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی برا کیا ہے، اور اس نوجوان کے ساتھ بھی برا کیا جس کی خاص اشیاء کا آپ نے تجسس کیا، اور اس کے چیٹ روم میں گئے۔

جناب والا آپ کی بیوی کا کیا قصور کہ آپ نے اس سے اپنی شادی کو ہوا کے گھوڑے پر دوڑا دیا، جب بھی آپ کو آپ کا دل اور خواہش چیٹ روم میں داخل ہونے کا کہے یا عورتوں سے بات چیت کرنے کا تو اس کی سزا آپ کی بیوی کو ہو کہ اسے طلاق؟ اللہ کی قسم بہت تعجب کی بات ہے!!

آپ کو تو چاہیے تھا کہ شادی کو آپ اس گندگی سے توبہ کی فرصت اور موقع بناتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو حلال کیا ہے اسے حرام سے کفالت سمجھتے، اور اسے بچوں کی کھیل نہ بناتے، اللہ ہمیں اور آپ کو سیدھی راہ نصیب فرمائے۔

حق تو یہ ہے کہ جو نوجوان باتیں کر رہا تھا اور اس نے چیٹ روم بھی کھلا چھوڑ دیا اس نے حرام اور غلط کام کیا، اگر وہ بالفعل ایک اجنبی لڑکی سے باتیں کر رہا تھا؛ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ تم بھی اس حرام کام میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور نہ ہی تمہیں اس کی جاسوسی کرنی چاہیے تھی، نہ تو آپ نے نیکی کا حکم دیا اور نہ ہی برائی سے منع کیا، اور نہ ہی آپ نے اس کام کو ترک کیا جو دوسرا کر رہا تھا۔

دوم:

رہا مسئلہ آپ کی قسم کا اگر تو آپ نے طلاق کی قسم اس لیے کھائی تاکہ آپ چیٹ روم میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو روک سکیں، اور اس قسم کے ساتھ اس کام سے دور ہوں اور آپ نے اس سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا قصد نہیں کیا تو آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی بلکہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں۔

قسم کے کفارہ کی مقدار معلوم کرنے کے لیے آپ سوال نمبر (9985) اور (45676) کے جواب کا مطالعہ کریں۔

اور اگر آپ نے اپنی قسم سے بیوی کو طلاق دینے کا قصد کیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا، تاکہ اس کے برے فعل کی آپ کو سزا ہو، تو یہ ایک طلاق شمار ہوگی۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

طلاق تو حاجت سے ہوتی ہے اور آزادی وہ ہوتی ہے جس سے اللہ کی رضا چاہی جائے"

اسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ طلاق تو اس کی واقع ہوتی ہے جس کی غرض طلاق دینے کی ہو؛ اس کی نہیں جو طلاق واقع ہونے کی ناپسند کرتا ہو مثلاً طلاق کی قسم اٹھانے والے اور مکہ یعنی جبر کیے جانے والے کی طرح۔

اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

"ہر قسم چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہو اس کا کفارہ اللہ کی قسم کا کفارہ ہی ہے"

اور یہ سب قسموں کو حاصل ہے، چاہے وہ طلاق کی قسم ہو یا غلام آزاد کرنے کی یا نذر وغیرہ کی۔

اور یہ قول کہ: طلاق کی قسم سے طلاق لازم نہیں ہوتی سلف اور خلف میں سے اکثر کا یہی مذہب ہے؛ لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کفارہ لازم نہیں کرتے مثلاً دوا اور اس کے اصحاب، اور کچھ قسم کا کفارہ لازم کرتے ہیں؛ مثلاً طاؤس وغیرہ سلف اور خلف سے "انتہی

مجموع الفتاویٰ (61/33)۔

مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے درج ذیل سوال دریافت کیا گیا:

ایک شخص کثرت سے سگریٹ نوشی کرتا ہے اور وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتا تھا لہذا اس نے اپنے آپ سے کہا: اللہ کی قسم اگر میں نے سگریٹ نہ چھوڑے تو مجھ پر میری بیوی حرام، لیکن وہ سگریٹ نوشی نہ چھوڑ سکا؟

کیٹی کے علماء کا جواب تھا:

"اگر تو آپ کا اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کا مقصد اپنے آپ کو سگریٹ نوشی سے روکنا تھا اور طلاق مقصد نہیں تو اس قسم سے طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس سے قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر آپ کا حرام سے مقصد طلاق تھا تو اگر آپ شراب نوشی کریں گے تو آپ کی بیوی کو ایک طلاق ہو جائیگی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں اگر تیسری طلاق نہ ہو تو پھر اسی طرح قسم توڑنے کا بھی آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ: دس مسکینوں کو کھانا دیا جائے، یا پھر دس مسکینوں کو لباس دیا جائے، اور اگر یہ نہ پائے تو تین ایام کے روزے رکھے" انتہی

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (100-99/20).

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اگر تو اس شخص کا اپنے قول "مجھ پر طلاق" سے مراد اور مقصد قسم ہو تو یہ قسم ہے اور قسم کے حکم میں ہوگی اگر وہ قسم توڑتا ہے تو اس پر قسم کا کفارہ ہوگا، اور اگر قسم نہ توڑے تو اس پر کچھ لازم نہیں آئیگا۔

اور اگر اس کا مقصد طلاق ہو اور وہ قسم کو توڑ دے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائیگی" انتہی

دیکھیں: فتاویٰ نور علی الدرر (17).

مزید آپ سوال نمبر (39941) اور (132586) کے جوابات کا مطالعہ ضرور کریں۔

واللہ اعلم.